



## Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

حضرت شاہ عبدالقدیر (اردو ترجمہ) بمعہ عربی

### سورة المُلْك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بڑی برکت ہے اس کی (ذات) جس کے ہاتھ میں ہے راج (بادشاہی) اور وہ سب چیز کر سکتا (پر قادر) ہے۔

٢. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً

جس نے بنایا مرنا اور جینا کہ تم کو جانچے (آزمائے)، کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

اور وہ زبردست ہے بخششے والا۔

٣. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

جس نے بنائے سات آسمان تھے، بر تھے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاؤلٍ

کیا دیکھتا ہے رحمن کے بنائے میں کچھ فرق؟

.4

فَإِذْ جَعَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

پھر دہرا کر نگاہ کر کہیں دیکھتا ہے دراڑ،

ثُمَّ اِذْ جَعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

پھر دہرا کر نگاہ کر، دو دوبار الٹی آئے تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر۔

.5

وَلَقَدْ رَأَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ<sup>ص</sup>

اور ہم نے رونق دی ورلے (قربی) آسمان کو چراغوں سے اور ان سے رکھی سچینک مار شیطانوں کی،

وَأَغْتَنْدُنَا هُمْ عَنَّا بِالسَّعْيِ<sup>ص</sup>

اور رکھی ہے ان کو مار دہتی آگ کی۔

.6

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ<sup>ص</sup>

اور جو منکر ہوئے اپنے رب سے، ان کو ہے مار (عذاب) دوزخ کی۔

وَبِئْسَ الْمُصِيرِ<sup>ص</sup>

اور بُری جگہ پہنچے۔

.7

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا هَاشِيقًا وَهِيَ تَفُورُ<sup>ص</sup>

جب اس میں ڈالے جائیں سُنیں اس کا دھاڑنا، اور وہ اچھلتی (جو شکھار ہی) ہے،

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ<sup>ص</sup>

ابھی لگتا ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے۔

.8

كُلَّمَا أَلْقَيْتِ فِيهَا فَوْجًّا سَأَلَهُمْ خَرَنَتْهَا أَلْمَ يَأْتِكُمْ نِذِيرٌ

جس بار پڑا اس میں ایک دل (گروہ)، پوچھا ان سے اس کے داروغوں نے، کیا نہ پہنچا تم کو کوئی ڈر سنانے والا۔

قَالُوا إِلَى قَدْ جَاءَنَا نِذِيرٌ فَكَذَّبُنَا

.9

وہ بولے کیوں نہیں ہم پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا۔ پھر ہم نے (اسے) جھٹلایا،

وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

اور کہا کوئی نہیں اتاری اللہ نے کچھ چیز۔ تم پڑے ہو بڑے بہ کاوے (گمراہی) میں۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

.10

اور بولے، اگر ہم ہوتے سنتے یا بوجھتے، نہ ہوتے دوزخ والوں میں۔

فَاعْتَرُضُوا إِذَنِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

.11

سو قائل ہوئے اپنے گناہ کے۔ اب دفع ہوں دوزخ والے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَعْجِشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

.12

جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کو معافی ہے اور نیگ (اجر) بڑا۔

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

.13

اور تم چھپی کھوا پنی بات یا کھول کر۔ وہ جانتا ہے جیوں (دلوں) کے بھید۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ

.14

بھلاوہ (ہی) نہ جانے جس نے بنایا؟

وَهُوَ الْطَّيِّفُ الْخَبِيرُ

اور وہی ہے بھید جانتا خبردار۔

صل

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَانَا كِبِهَا وَلُكُو امْنَنْ رِزْقُهُ

و، ہی (تو) ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست،  
اب پھر دوس کے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ روزی دی اس (اللہ) کی۔

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

اور اسی کی طرف جی (دوبارہ) اٹھنا ہے۔

.15

أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمْوِيرٌ

کیانڈر (بے خوف) ہوئے اس سے، جو آسمان میں ہے کہ دھنسادے تم کو زمین میں، پھر دیکھو وہ لرزتی ہے؟

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

یانڈر (بے خوف) ہوئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر پھتر او باو (ہوا) کا؟

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ

سواب جانو گے، کیسا ہے میرا در کا (تنبیہ)!

.16

.17

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ

اور جھٹلا چکے ہیں جوان سے پہلے تھے، پھر کیسا ہو امیر ابگاڑ (عذاب)؟

.18

أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيِّرِ فَوَقْهُمْ صَافَاتٌ وَيَقْبِضُنَ

اور کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور اپنے اوپر پر کھولے اور جھکتے؟

.19

ج  
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ

ان کو کوئی نہیں تھام رہا، رحمن کے سوا۔

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز۔

ج  
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَتَصْرُّكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری مدد کرے گی تمہاری رحمن کے سوا؟

إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرْرٍ

منکر پڑے ہیں نرے بہکاوے میں۔

ج  
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَهُ بِرُزْقَهُ

بھلا وہ کون ہے جو روزی دیگا تم کو، اگر وہ (رحمن) رکھ چھوڑے اپنی روزی؟

بَلْ جَاؤْنَا فِي عُتُّٰوَنْقُوٰرٍ

کوئی نہیں! پر اڑ رہے ہیں شرات اور بد کنے پر،

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ پر، وہ سید ہی راہ پائے یا وہ جو چلے سیدھا ایک سید ہی راہ پر؟

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ

تو کہہ، وہی ہے جس نے تم کو نکال کھڑا (پیدا) کیا، اور بنادیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔

.20

.21

.22

.23

قَلِيلًا مَا تُشْكُرُونَ

تم تھوڑا حق مانتے (شکر گزار ہوتے) ہو۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَ أَكْمَرٍ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

.24 تو کہہ وہی ہے جس نے کھنڈا یا (پھیلا یا) تم کو زمین میں، اور اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّذِيرُ مُبِينً

.25 تو کہہ، خبر تو ہے اللہ ہی پاس۔ اور میں تو یہی ڈرستا نے والا ہوں کھول کر۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ رُّلْقَةً سِيَّئَتْ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ

.26 پھر جب دیکھیں گے وہ پاس آگا، بُرے بن جائیں گے منہ منکروں کے اور کہے گا یہی ہے جسکو تم مانگتے تھے۔

قُلْ أَأَتَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعَيْ أَوْ رَحْمَنَا

.27 تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اگر کھپا (ہلاک کر) دے مجھ کو اللہ، اور میرے ساتھ والوں کو، یا ہم پر مہر (رحم) کرے،

فَمَنْ يُجِيدُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

پھر کون ہے جو بچائے منکروں کو دکھ کی مار سے؟

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

.29 تو کہہ وہی رحمن ہے، ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

سواب جان لو گے، کون پڑا ہے صریح بہ کاوے (گمراہی) میں؟

قُلْ أَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤْ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِي كُمْ بِهَا عِمَّا عَيْنَ

تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اگر ہو رہے صح کوپانی تمہارا خشک پھر کون ہے جو لائے تم کوپانی نھرا (صف)?

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)